



# GENERAL MATHEMATICS SSC-II

## SECTION - A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section - A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات ہی مطبوعہ نمبروں کے حوالے کریں۔ گفٹ کر دیا جائے۔  
گفٹ کر دیا جائے۔ اس کے جوابات ہی مطبوعہ نمبروں کے حوالے کریں۔ گفٹ کر دیا جائے۔

| Version No. |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| 2           | 0 | 2 | 6 | 1 |

| ROLL NUMBER |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
|             |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Answer Sheet No. \_\_\_\_\_

بر سوال کے سامنے دیے گئے، کرکیم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔


Invigilator Sign. \_\_\_\_\_

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. \_\_\_\_\_

| Question                                                  | سوال                                                           | A                           | B              | C           | D                                            | A                     | B                     | C                     | D                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. If $x = 3 + \sqrt{8}$ then $\frac{1}{x} =$ _____       | اگر $x = 3 + \sqrt{8}$ ہو تو $\frac{1}{x}$ کی قیمت معلوم کریں۔ | $3 - \sqrt{8}$              | $\sqrt{3} + 8$ | $\sqrt{8}$  | $-3 - \sqrt{8}$                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. $(a+b)^2 + (a-b)^2 =$ _____                            |                                                                | $-4ab$                      | $a^2 + b^2$    | $4ab$       | $2(a^2 + b^2)$                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Factorization of $a^2 - 1$ is: _____                   | $a^2 - 1$ کی تجزی کریں۔                                        | $(a-1)(a+1)$                | $(a+1)(a+1)$   | $(a-1)$     | $(a^2+1)(a+1)$                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. H.C.F of $2x^2 + 3x + 1$ , $2x^2 - x - 1$ is: _____    | $2x^2 + 3x + 1$ , $2x^2 - x - 1$ کا H.C.F کیا ہے؟              | $2x - 1$                    | $2x + 1$       | $x + 1$     | $x - 1$                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Product of two expressions _____<br>H.C.F _____        | دو اظہاری جملوں کا حاصل ضرب _____<br>H.C.F _____               | L.C.M<br>دو اظہاری جملوں کا | H.C.F<br>H.C.F | 0           | L.C.M x H.C.F<br>دو اظہاری جملوں کا حاصل ضرب | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. If $x - a$ is a factor of $P(x)$ , then $P(a) =$ _____ | اگر $x - a$ $P(x)$ کا جزو ضربی ہو تو $P(a) =$ _____            | 1                           | 0              | $-a$        | $a$                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. Solution of $ x-1  = 4$ is: _____                      | $ x-1  = 4$ کا حل کیا ہے؟                                      | $\{-5, -3\}$                | $\{-5, 3\}$    | $\{5, -3\}$ | $\{5, 3\}$                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



| Question                                                                                                                                    | سوال                                                                                                                                                                   | A                                                      | B                                                      | C                                                               | D                                                      | A                     | B                     | C                     | D                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8. Solution of $x^2 - 5x + 6 = 0$ is:                                                                                                       | $x^2 - 5x + 6 = 0$ کا حل سیٹ کیا ہے؟                                                                                                                                   | {3}                                                    | {2}                                                    | {2,3}                                                           | {-2,-3}                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. In figure, the pair of angles $\angle 2$ and $\angle 6$ are:                                                                             |  <p>نیچے دی گئی شکل میں <math>\angle 2</math> اور <math>\angle 6</math> کی نوعیت؟</p> | Vertical angles<br>راستی زاویوں کے جوڑے                | Complementary angles<br>کیلیکولٹری زاویوں کے جوڑے      | Alternative interior angles<br>اوپر والی متبادرت زاویوں کے جوڑے | Corresponding angles<br>متناظر زاویوں کے جوڑے          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. If two angles are complementary and the larger angle is four times bigger than smaller angle. How many degrees are there in each angle? | اگر دو زاویے کیلیکولٹری ہوں اور بڑا زاویہ چھوٹے زاویے کے چار گنا ہو تو ہر ایک زاویے کا درجہ کیا ہوگا؟                                                                  | $18^\circ$ and $70^\circ$<br>$18^\circ$ اور $70^\circ$ | $18^\circ$ and $72^\circ$<br>$18^\circ$ اور $72^\circ$ | $8^\circ$ and $60^\circ$<br>$8^\circ$ اور $60^\circ$            | $10^\circ$ and $52^\circ$<br>$10^\circ$ اور $52^\circ$ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11. A line coplanar with a circle and intersecting the circle at one point only is called:                                                  | ایک خط مستوی دائرہ کے ساتھ ایک خط جو دائرہ کو صرف ایک نقطہ پر قطع کرے کیا کہلاتا ہے؟                                                                                   | Median<br>وسطیہ                                        | Altitude<br>ارتفاع                                     | Tangent line<br>خط مماس                                         | Normal line<br>خط عمود                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. If volume of a cylinder is $12320\text{cm}^3$ and height $20\text{cm}$ then its radius is:                                              | سلنڈر کا حجم $12320\text{cm}^3$ کیبل سٹیل سینٹر اور اوپنل 20 سینٹی میٹر ہو تو سلنڈر کا رداس کیا ہوگا؟                                                                  | $12\text{cm}$                                          | $10\text{cm}$                                          | $14\text{cm}$                                                   | $16\text{cm}$                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13. For what value of $x$ , distance between the points $A(4, x)$ and $B(1, 0)$ is 5?                                                       | نقطہ کی کون سی قیمت ہوگی، اگر نقطہ $A(4, x)$ اور $B(1, 0)$ کے درمیان فاصلہ 5 ہو؟                                                                                       | 0                                                      | $\pm 4$                                                | $\pm 3$                                                         | $\pm 5$                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14. The co-ordinates of the origin are:                                                                                                     | سرنام کے محاورات کیا ہوتے ہیں؟                                                                                                                                         | 0                                                      | (1,0)                                                  | (0,0)                                                           | (0,1)                                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 15. In matrices $(AB)^{-1} = \frac{1}{(AB)}$                                                                                                | $(AB)^{-1} = \frac{1}{(AB)}$ ہے                                                                                                                                        | $A^{-1}$                                               | $B^{-1}$                                               | $B^{-1}A^{-1}$                                                  | $A^{-1}B^{-1}$                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

—25A-I 24026-20261—

| ROLL NUMBER |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|
|             |  |  |  |  |  |

